

Secondary Arabic (235)

سبق نمبر 16: في المصرف (البنك)

یونٹ: 2

سبق نمبر	سبق کا نام	زبان کی مہارتیں			زندگی کے عملی کام/سرگرمیاں/مہارتیں
		سننا/بولنا	پڑھنا	لکھنا	
16	في المصرف (البنك)	نئے الفاظ کا اپنی گفتگو میں استعمال	نثر (ڈائلاگ)	متن کی تفہیم کے بعد سوالات کے جوابات	<ul style="list-style-type: none"> • مضمون • مضاف اور مضاف الیہ
					<ul style="list-style-type: none"> • بنک سے متعلق نئی اصطلاحات • عربی زبان میں مکالمہ

سبق کا خلاصہ:

تلقی السید علی شیکا من الرياض من شقيقة الاكبر الذى يشتغل مهندسا هناك. فأراد السيد علي فتح حساب في البنك - فذهب إلى بنك آف انديا فقال له المدير أن يأخذ استمارة فتح الحساب و المعلومات المطلوبة ويلصق صورته الحديثة - فعاد علي إلى منزله و ملأ الاستمارة وفتح حسابين معاً. الحساب الجارى وحساب التوفير و أودع الشيك واستلم دفتر الشيكات و دفتر الحساب لما أعلن البنك بفتح بابہ بقبول فواتير الكهرباء والمياه والهواتف و توصيلها إلى الجهات المختصة فذهب علي إلى البنك لتسديد فواتيره و سدّها بالفعل، فحصل على ورقة الإيصال، ثم توجّه إلى شبك الاستعلامات و تعرّف على الحوالات البنكية و بطاقات الصرف الألى والائتمان والديون وغيرها. وأخيرا ذهب إلى شبك تحويل العملات الأجنبية و حول عشرة حوالات إلى روبيات هندية.

مشکل الفاظ:

تلقی یتلقى	حاصل کیا/حاصل کرتا ہے
شیک/صک	چیک
مدیر	منیجر
تفضّل	تشریف لائیے
استماره	فارم
هوية	شناختی کارڈ
حساب التوفير	سیونگ اکاؤنٹ
حساب جاری	کرنٹ اکاؤنٹ
أودع يودع	جمع کیا/جمع کرتا ہے
استلام	حصول پابی
فاتورة /فواتير	بل
دفع	ادائیگی
ورقة الابصال	رسید
عملة	کرنسی

خاص باتیں:

- ترکیب اضافی کے دو عنصر ہوتے ہیں۔ مضاف اور مضاف الیہ۔
- مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ اس کے بعد آتا ہے۔
- مضاف الیہ کے آخری حرف پر کسرہ ہوتا ہے۔
- مضاف پر 'ال' داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس پر تنوین لگایا جاتا ہے۔
- مضاف اگر مثنیٰ یا جمع تو اس سے اضافت کے وقت 'ن'، گرادیا جاتا ہے۔ جیسے: مسلمان الہند (اصل میں مسلمان تھا) اور مسلمو الہند (اصل میں مسلمون تھا)
- اس سبق میں بنک سے متعلق نئے اصطلاحات آتے ہیں جن کا گفتگو / بول چال میں استعمال کرنا چاہیے۔

سمجھنے کی بات:

- بنک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس سبق میں بتائی گئی ہیں۔
- بنک لوگوں کو مختلف قسم کی سہولتیں مہیا کراتا ہے جیسے: پیسے بھیجنا، بل جمع کرنا اور غیر ملکی کرنسی کو ہندستانی روپیے میں منتقل کرنا وغیرہ
- اسم اشارہ جملوں میں اکیلے بھی آتا ہے تو مبتدا کی جگہ پر ہوتا ہے جیسے: هذا كتاب۔ ذلك ولد۔

غور کرنے کی باتیں:

- مضاف پر نہ تو 'ال' آتا ہے اور نہ ہی "تنوین"۔
- مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔
- مضاف الیہ معرفة اور نکرہ دونوں ہو سکتا ہے جیسے: كتاب ولد۔ كتاب الولد

اپنی جانچ آپ کیجیے:

- 1- متن پر مبنی سوال:
 - صحیح جواب پر (✓) کا نشان لگائیے:
 - (الف) علي دخل البنك يوم الجمعة
 - (ب) فتح علي حساب التوفير فقط
 - (ج) أخذ علي استمارة فتح الحساب من شباك رقم
 - (د) حول علي عشرة روبيات الى الدولار الامريكي

2- مختصر ترین جواب والا سوال:

- ماذا تلقى السيد علي؟

3- مختصر جواب والا سوال:

● ماذا فعل علي في البنك؟

4- طویل جواب والاسوال:

● ماذا شرح ضابطة العلاقات لعلی؟